

بینک الحیب لمیٹڈ
بینک چارجز کا شیڈول
یکم جولائی 2025 تا 31 دسمبر 2025

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA۔ اوپننگ

سالانہ حجم / تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار:

پہلی سہ ماہی	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ	کم از کم (کمیشن)
0.40 فیصد	0.25 فیصد	کم از کم 2,500 روپے
0.30 فیصد	0.20 فیصد	کم از کم 2,500 روپے
0.17 فیصد	0.10 فیصد	کم از کم 2,500 روپے

a - 10 ملین روپے تک

b - 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین روپے تک

c - 100 ملین روپے سے زائد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز عہدیدار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

AB۔ زائد المیعا ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینیفٹری کو منتقل کرنا

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

درج بالا AA-I

1.00 فیصد 0.30 فیصد 1500 روپے

II بارٹر / امداد / قرضوں کے تحت ناقابل ادائیگی ایل سیز:

III ترامیم:

a۔ اگر رقم اور / یا مدت ملوث نہ ہو

b۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:

1 پوزیشن بلز:

میعاد مکمل پر

1800 روپے (فلیٹ)

1800 روپے اور کمیشن درج بالا AA-I کے مطابق

2500 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

فی بل 1250 روپے اور اسکے علاوہ زائد کمیشن فی مہینہ 0.15 فیصد یا اُس کا حصہ۔

پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد کم از کم 1250 روپے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کم از کم 1500

روپے وصول کیے جائیں گے)

فی بل 2000 روپے فلیٹ

مارک اپ پی اے ڈی لوجمنٹ کی تاریخ سے یا ہمارے اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ

ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے

ایل سی / معاہدے کے تحت پوزیشن بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ

2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a۔ پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b۔ اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک

c۔ لوجمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 39 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 45 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 50 پیسے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز سے کم از کم

1500 روپے وصول کیے جائیں گے)

کم از کم 1000 روپے پرمیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. زائد المیعا دیکسپشن کی سہولت

VI ان ورڈ غیر ملکی دستاویزی بلز:

- a۔ تمام ان ورڈ کلکشن / اوپن اکاؤنٹ / ایف اوسی کیسز پر ہینڈلنگ چارجز
b۔ بنانا دینگی، واپس کیے گئے آئٹمز / بشمول کوریئر چارجز
c۔ تمام غیر ملکی بلز کلکشن / بشمول معاہدہ / اوپن اکاؤنٹ کی ریٹائرمنٹ / ادائیگی
d سوئفٹ چارجز

VII درآمدات کے مقابل پیشگی ادائیگی

- a۔ سوئفٹ ٹرانسفر
b۔ ڈیمانڈ ڈرافٹس
c۔ سروس چارجز

VIII کریڈٹ رپورٹس:

- a۔ غیر ملکی بینکوں کو، اُن کی درخواست پر
b۔ غیر ملکی بینکوں کو، صارف کی درخواست پر
IX معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
a۔ معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
b۔ درآمدات کے کنٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں
i۔ اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو
ii۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ہو

X ری امبر سمٹ چارجز (ری امبر سنگ بینک کو قابل ادا)

XI میج کی ترسیل

- a۔ فل سوئفٹ لیٹر آف کریڈٹ
b۔ ایل سی میں ترمیم سوئفٹ کے ذریعے
XII ڈسکریٹ دستاویزی ہینڈلنگ
XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سرٹیفکیٹ کا اجراء
XIV درآمدات کے عوض فنانشل انسٹرومنٹ کا اجراء (ایف آئی)
XV بینک سے بینک کو ایف آئی کی منتقلی
XVI اوپن اکاؤنٹ پر فنانشل انسٹرومنٹ (ایف آئی)
XVII بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ
XVIII دیگر چارجز

B برآمدات

I لیٹر آف کریڈٹ

- a۔ ایڈوانسنگ - کسٹمرز کے لیے
b۔ امینڈمنٹ ایڈوانسنگ - کسٹمرز کے لیے
c۔ برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوسی ایشن کرنا
d۔ تصدیق

e۔ برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

- f۔ نان ریڈیڈنٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی جانے والی رقم کی ادائیگی
g۔ برآمدی ایل سی کلکشن
II اگر ایکسپریس ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوسی ایشن کے لیے بھیجے جائیں۔

1700 روپے

یو ایس ڈالر 100 (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے)
1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VIa، VIb اور VIc پر لاگو ہیں۔)

1500 روپے

500 روپے

0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100

اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے

0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2500 روپے

1500 روپے (فلیٹ)

1000 روپے علاوہ کمیشن درج بالا IXA کے مطابق

اصل

2000 روپے

1000 روپے

95 امریکی ڈالر (یا فارن کرنسی مساوی ہو فارورڈنگ بینک کے)

1500 روپے فی سرٹیفکیٹ

125 روپے فی درخواست

750 روپے فی ٹرانزیکشن

1200 روپے فی درخواست

1250 روپے

سیکشن 'F' متفرق کے مطابق

2000 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

3000 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1500 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

1800 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1500 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1500 روپے

725 روپے

1500 روپے

1200 روپے

III کلیکشنز

a۔ دستاویزی (جس پر بینک ایکسیچجڈ فرس نہیں کما تا ہو)

IV ڈیوٹی ڈرائیگ کلیم کی بینڈ لنگ

V۔ ہیمنٹ کو پہلے سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NOSTRO) میں وصول ہو جانے کی صورت میں، کلیکشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پر سروس چارجز

VI سائٹ/پوسٹنس لیٹر آف کریڈٹ کے تحت غیر ملکی کرنسی بلز میں نیگوسی ایشن

VII بینکی ادائیگی پر سروس چارجز

VIII ایس پی او (اسٹیٹڈ رائٹڈ پرچیز آرڈر)

IX فریٹ سبسڈی

X ای ای کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای ای/ای ایف/ای ایف کا اجراء

XII برآمدی ری فنانس درخواستوں/ای ای ایف ایس (ایگزیم بینک) پر بینڈ لنگ چارجز

XIII برآمدی ڈولپمنٹ سر چارج

XIV پی آر سی کے اجراء، جانچ پڑتال، دوبارہ تصدیق اور آر اینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بڑھانے پر سروس چارجز۔ گارمنٹ کی صنعت (سے تعاون) کو سہارہ

XV مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیگ (گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور فیبرکس)

XVI پروسیسڈ فوڈ کی برآمدات کے لیے 6 فیصد ریسرچ اینڈ ڈولپمنٹ سپورٹ

XVII لائیو فوڈز کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (ٹی ڈی اے پی طے کرتا ہے)

XVIII ان لینڈ فریٹ سبسڈی

XIX بزنس پر فارمنس سرٹیفکیٹ

XX ڈیوٹی ڈرائیگ پر کلیم کرنے کے لیے ڈپلیکٹ انکس اے کا اجراء

XXI جہاں برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زرمبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی دستاویزات بذریعہ بینک انجیب بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں، زرمبادلہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی جگہ بینڈ لنگ اور سروس چارجز

XXII زائد المیاجاڈ سپورٹ بلز پر بینڈ لنگ اور سروس چارجز

XXIII ڈیوٹی ڈرائیگ کلیمز کی بینڈ لنگ (ڈی ایل ٹی ایل) / ٹیکسٹائل / ٹیکسٹائل بینڈ لنگ چارجز (انکریمینٹل اسٹیپمز)

XXIV گندم / گندم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر سبسڈی کلیمز کی بینڈ لنگ

XXV کلیکشن دستاویزات کو تیکو شیٹ کرنے کے لیے دیگر بینکوں کے نام

برآمدکارین اسی کا اجراء / دیگر بینکوں کو ای ایف ای کی منتقلی

XXVI ایل کو ایل کرنے / کھولنے کی صورت میں شپنگ کمپنیوں کو ای ای کا اجراء

XXVII دوسرے بینک کو برآمد کی حاصل ہونے والی رقم کی منتقلی، جہاں ہمارے یہاں کوئی دستاویزات کی بینڈ لنگ نہیں کی گئی

XXVIII ایل ٹی ایف ایف (ایس ٹی بی) ایکلیکیشنز کیلئے بینڈ لنگ چارجز

XXIX ایکسپورٹ ڈاکیومنٹ ریٹرن بغیر ادائیگی کے

XXX ایکسپورٹ ایڈ وائس ہیمنٹ کمیز کے سروس چارجز جہاں ای فارم تصدیق ہوا سرٹیفکیشن ایس ٹی بی ای پروول کے ایک سال بعد

XXXI ایف آئی کے اجراء کی تاریخ کے 45 دن بعد شدہ ایف آئی

XXXII ڈپازٹ کے عوض ایکسپورٹس / غیر ملکی کرنسی کی حوالگی

XXXIII ایکسپورٹ پراسیڈر نیلازین سرٹیفکیٹ (ای پی آر سی) کا اجراء۔ ایک سال سے زائد

XXXIV ایکسپورٹ کے عوض ایف آئی انسٹرومنٹ بنانا

XXXV۔ روپے کی بنیاد پر ایس ٹی بی لون اپٹیکلیکیشن چارجز

c۔ کلیکشن (غیر ملکی کرنسی)

I آؤٹ ورڈز

a۔ کلین بلز

b۔ بنادائیگی واپس شدہ چیکس

c۔ لوکل یو ایس ڈالر کلیکشن

d۔ واپس شدہ لوکل یو ایس ڈالر کلیکشن کے چارجز

1000 روپے

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 2000 روپے

اوڈی بانگ شرح لاگو ہوگی

a۔ اگر 12 دن کے اندر سائٹ بلز پر اس نہیں کئے گئے تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کیلئے فی

دن ہزار روپے پر 50 پیسے وصول کئے جائیں گے

b۔ اگر مقررہ تاریخ کے اندر پوسٹنس بلز پر اس نہیں کئے گئے تو مقررہ تاریخ کے بعد بلز کی

ادائیگی کی تاریخ سے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے وصول کئے جائیں گے

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1000 روپے فی کیس

1500 روپے

1250 فی مینشن / درخواست

100 روپے فی بل

1000 روپے

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1250 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ کے وقت فی E فارم -1200 روپے

-1000 روپے فی شپٹ / فی ٹرانزیکشن

-1000 روپے فی کیس۔

-750 روپے

-1200 روپے فلیٹ

1500 روپے بشمول سوئفٹ چارجز

2000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے

100 روپے فی ایف آئی فارم

فارن کرنسی ٹوکس کے ڈپازٹس / سپردگی کا 0.70 فیصد

600 روپے

125 روپے فی درخواست

1250 روپے فی مینشن / درخواست

یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی علاوہ کوریئر چارجز

ریٹنگ بینک کے اصل چارجز علاوہ یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

یو ایس ڈالر 5 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی فی انسٹرومنٹ

یو ایس ڈالر 6 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی فی انسٹرومنٹ

یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D۔ ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a۔ فنانشل ڈیمانڈ ڈرافٹ FDD

یو ایس ڈالر 20 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک کے ساتھ میٹھین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 35 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک کے ساتھ میٹھین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 کے علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

b۔ ایف ٹی ٹی

c۔ ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d۔ ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / ڈاک / فیکس / سوئفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II ان ورڈ

a۔ ڈی ڈی / ای ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں

1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریڈرز چیکس کا اجراء

E فارن بلز کی خرید

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

او۔ ڈی بانگ ریٹ لاگو ہوں گے۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن 1000 روپے پر 50 پیسے بشمول 50 روپے بینڈ لنگ چارجز وصول کیے جائیں گے۔ متفرق سیکشن "F" کے مطابق

II دیگر چارجز

F۔ متفرق:

I کورس پونڈنس کے چارجز

II پونج / کوریئر / سوئفٹ چارجز کی وصولی درج ذیل کی جائیں گی:

اصل

200 روپے

i۔ اصل

ii۔ جہاں کوریئر کمپنی کی جانب سے کوریئر چارجز براہ راست ڈیبٹ ہوئے ہوں کسٹمر کے اکاؤنٹ سے تو بطور سروس چارجز 150 روپے چارج کئے جائیں گے۔

1000 روپے فی پیغام

پونج
کوریئر

سوئفٹ

اصل بشمول 500 روپے پراسیسنگ چارجز

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

IV صارفین کی درخواست پراسیڈر بینک آف پاکستان سے غیر ملکی زرمبادلہ کی ٹرانزیکشنز / ٹریڈ

ٹرانزیکشنز / یاد دہانی مقاصد کیلئے منظوری حاصل کرنا

V فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مستقل ہدایت

یو ایس ڈالر 4 فی ہدایت مع ریمیٹنس چارجز

اندرون ملک بینکاری

A۔ ترسیلات زر:

a۔ بینکرز چیک کا اجراء

500 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پرنس لاگو نہیں ہوگی)۔

b۔ ایم ٹیز، ٹی ٹیز کا اجراء

i۔ ہمارے کورسپونڈینٹ پر ڈرا ہونے والے

c۔ فیکس ای ٹی ٹیز پرسونل چارجز

d۔ پوسٹل

e۔ منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f۔ (i) آن لائن کیش جمع کروانا / رقم نکالوانا

II ڈی ڈی / بی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B۔ اندرون ملک تجارت

I۔ ساقط ایل سیز کی توثیق نو یا نئے بینفیشری کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات میں غلطی کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a۔ اگر رقم اور / یا مدت سے سروکار یا واسطہ نہ ہو

b۔ اگر مدت شامل ہو

c۔ اگر رقم میں اضافہ درکار ہو

V L/C کی منسوخی کے چارجز

VI ریٹائرمنٹ:

1۔ مقامی ایل سی کے تحت مکمل میعاد پر بلز کی ریٹائرمنٹ

2۔ یونینس بلز: میعاد پر

3 سائٹ

(i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a۔ پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b۔ اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c۔ لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

VII کلکیشن

a۔ دستاویزی (آئی ڈی بی سی اور ایل ڈی بی سی) +

b۔ کلین (بشمول چیکس)

c۔ رجسٹریشن کے بینڈنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پرچیز آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VIII اندرون ملک کی ایل سیز کے لیے نیگوسی ایشن

IX بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a۔ دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر ڈرا کیے گئے

ہوں

b۔ دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیویڈنڈ وارنٹس)

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

200 روپے فی شے

کوئی نہیں

کوئی نہیں (اندرون شہر) کوئی نہیں (بیرون شہر)

600 روپے

600 روپے

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

0.50 فیصد فی سہ ماہی اور بعد کی سہ ماہیوں کے لیے 0.35 فیصد کم از کم 2000 روپے

1500 روپے

1500 روپے

1500 روپے علاوہ کمیشن، بعد کی فی سہ ماہی کے لیے 0.35 فیصد کی شرح پر

(II) B کے مطابق 900 روپے بمعہ کمیشن

1500 روپے بمعہ سوئفٹ چارجز

تمام بلز کی ریٹائرمنٹ پر (یونینس اور سائٹ) 0.05 فیصد سروس چارجز

500 روپے فی بل، زائد کمیشن کی شرح کے مطابق 0.10 فیصد فی مہینہ یا اس کا کچھ حصہ

پہلے سے کورڈ ایل سی کمیشن کی مدت کے بعد پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 39 پیسے فی یوم

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 45 پیسے فی یوم

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 50 پیسے فی یوم

0.4 فیصد کم از کم 900 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

0.25 فیصد کم از کم 300 روپے، زیادہ سے زیادہ 1100 روپے بمعہ ادائیگی کرنے

والے بینک کے چارجز

250 روپے

بل کی رقم کا 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.40 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 41 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی

خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک 0.35 فیصد

کم از کم 30 روپے، فی دن ہزار روپے پر 41 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ

ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

X بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

500 روپے

XI متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا I-V) زائد ہوں گے۔

a۔ کلکٹنگ بینک چارجز (اگر کلکٹنگ بینک، بینک الحبیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

50 روپے

b۔ بذریعہ فون / فیکس انسٹرمنٹس کی معلومات

c۔ انسٹرمنٹ واپس ہونے کے چارجز

دستاویزی کلکیشنز کے لیے

کلین کلکیشنز کے لیے

d۔ اسٹورج چارجز

e۔ کوریئر چارجز:

بینک الحبیب کی برانچوں کے لیے

دیگر بینکوں کے لیے

C۔ فنانسنگ / ایڈوانسز

I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے علاوہ اضافی لیے جائیں گے:

منصوبے کی معائنہ اور جائزہ فیس

قانونی اور انتظامی فیس

متفرق چارجز (سیکیورٹی کو جانچنا اور اسکا مینٹنس)

II رہن اور ہائپوٹھیکیشن پر فنانس کے لیے

مختلف چارجز اور ہائپوٹھیکیشن نافذ ہو سکتے ہیں:

a۔ گودام کا کرایہ

b۔ گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم کے چارجز

c۔ گودام کے معائنے کے چارجز:

i۔ میونسپل حدود کے اندر

ii۔ میونسپل حدود کے باہر

d۔ حوالے کرنے کے چارجز - اگر گودام کارکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e۔ اسٹاک کا معائنہ:

i اگر یہ معائنے بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنے بینک کا اسٹاف کرے

اصل

(i) بلدیاتی حدود - 1250 روپے کے اندر

(ii) بلدیاتی حدود سے باہر - 2500 روپے فی معائنہ (30-45 دنوں میں زیادہ سے

زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/بیرونی اور اندرونی آڈیٹرز کے ذریعے سے گوداموں پر وقتاً

وقتاً چاکنگ معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہوں گے

اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو

پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول

کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ

کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

375 روپے فی ترسیل

f۔ کاروباری عہد اور معاوضہ کمیشن

g۔ پلیجڈ کے سامان پر ڈیپوزی آرڈر چارجز

اصل پر	(h) دیگر ضمنی اخراجات، انشورنس پر میٹیم
	(ii) قانونی چارجز:
	. اندرونی قانونی معاونت:
2000 روپے فی دستاویز	. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی
500 روپے	. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سکیورٹی پر حق تصرف (لی این) کی نوٹنگ
اصل پر	. بیرونی قانونی معاونت:
اصل پر	III سی آئی بی رپورٹ چارجز
زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 18% سالانہ	IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)
10,000 روپے فی این او سی	V مزید پروڈیکٹس کیلئے انکے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی / مساوی چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء (صارف کی درخواست پر)
2500/- روپے فلیٹ فی جائیداد بشمول قانونی / وینڈر فیس	VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹر کے پاس جانا ہو تو ایسی صورت میں ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی
اصل پر	VII سکیورٹی آف آپریشن / سیکشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / سیٹیفیکیشن / ویکشین آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرج / سی ٹی سی وغیرہ
اسٹیپ پیپر / چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر	VIII کنٹرول اینڈ سکیورٹی دستاویزات پر اسٹیپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیپ ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق
	IX کمرشل وہیکل لیزنگ (CVLD کے ذریعے)
9000 روپے	a پروسیڈنگ فیس
اصل پر	b دستاویز کے چارجز
واجب الادا رقم کا کل 1 فیصد	c ابتدائی تصفیے کے چارجز
اصل پر	d اضافی تخمینے کے چارجز
اصل پر	e تخمینے کے چارجز - گاڑی کی دوبارہ ملکیت
لیز ریٹنل کی واجب الادا رقم کا 18% سالانہ	f تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
750 روپے	g چیک واپس ہونے پر چارجز
اصل پر	h گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز
اصل پر	i دوبارہ ملکیت کے چارجز
اصل پر (صارف ادا کرے گا)	j گاڑی کا ٹیکس
اصل پر	k قانونی چارجز
	X - زرعی قرضہ جات
	(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان - فارم لون
2000 روپے	1.5 ملین تک کے قرضے
3500 روپے	1.5 ملین سے زیادہ 3 ملین تک
منظور شدہ رقم کا 1.0 فیصد زیادہ سے زیادہ 15000 روپے	3 ملین سے زیادہ
اصل	(ii) دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی چارجز
اصل	(iii) پراپرٹی کی مالیت کے چارجز
تاخیر سے ملنے والی STF رقم پر 18% سالانہ شرح وصول کی جائے گی	(iv) واجب الادا قلیل المدتی فنانس کی سہولت
اصل	(v) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے) سروس چارجز (صرف پنجاب میں)
اصل	(vi) سکیورٹی ڈرائنگ سیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں سکیورٹی انٹرسٹ کی رجسٹریشن کیلئے فیس بشمول ابتدائی، ماڈیفیکیشن، ٹرمینیشن چارجز وغیرہ

XI کارپوریٹ کریڈٹ

(a) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

50 ملین تک کے قرضے

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ 250 ملین تک

250 ملین سے زیادہ 500 ملین تک

500 ملین سے زیادہ

(b) زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت

XII کمرشل کریڈٹ

(i) مالی نیا/تجدید شدہ

2 ملین تک کے قرضے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک

10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک

20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ

(ii) اضافہ/کی/ای اوایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) قلیل المدت زائد المعیاد قرضے کی سہولت

XIII چینل فنانسنگ

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

(ii) اضافہ/کی/ای اوایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

XIV اسٹاک ایکسچینج میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

مالی سہولت 10 ملین تک

مالی سہولت 10 ملین سے زیادہ

(ii) ایس ایم ای صارفین (ایس ای اور ایم ای) کے واجب الادا چارجز

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزرویٹو بینکنگ پروڈکٹس، چینل فنانسنگ، کمرشل وہیکل لیزنگ

کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لوگو ہیں۔

D لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی براچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر کسی ڈپازٹ کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو موجودہ

اور نئے صارفین سے لاکر کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

a کی ڈپازٹ

یا

b سالانہ فیس

c لاکر ٹوڑنے/چابی کی تبدیلی کے چارجز

d دیر سے ادائیگی کی فیس (آخری تاریخ سے

30 یوم کی مدت تک رعایتی وقت)

10,000 روپے

25,000 روپے

70,000 روپے

80,000 روپے

100,000 روپے

زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت میں اسکی واجب الادا رقم پر 18% سالانہ کی شرح سے معاوضہ لیا جائے گا۔

2,500 روپے

3,000 روپے

5,000 روپے

10,000 روپے

20,000 روپے

30,000 روپے

50,000 روپے

کوئی نہیں

زائد المعیاد ایس ٹی ایف رقم پر 18% سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

5000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

18% ایس ٹی ایف سہولت کے عوض

چھوٹے لاکر کے لیے 60,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 70,000 روپے

بڑے لاکر کے لیے 100,000 روپے

چھوٹے لاکر کے لیے 6,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 7,500 روپے

بڑے لاکر کے لیے 10,000 روپے

اصل پر

500 روپے (اس سال)

650 روپے (میڈیم)

850 روپے (لارج)

E۔ گارنٹیز

I ابل آف لیڈنگ / ایئر کنسائمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایئر لائنز کو جاری 2000 روپے

کردہ گارنٹیز

II ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلیکٹر کو جاری کردہ گارنٹیز 0.60 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1600 روپے فی سہ ماہی

III دیگر گارنٹیز 0.45 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 1600 روپے فی سہ ماہی

IV برآمد سے حاصل ہونے والی رقوم و دہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ 500 روپے

بینک آف پاکستان کو جاری کردہ گارنٹیز

V دیگر گارنٹیز بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیز سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ

اسکیم کے تحت :

a اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 500 روپے فی سہ ماہی

b اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.30 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ

(کمپیڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق

ہوگا اور باقی رقم کا فرق وصول کر لیا جائے گا)

VI گارنٹی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گی) ترمیمی کمیشن 1200 روپے

VII ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے گارنٹیز کی وصولی 1500 روپے فی انسٹرومنٹ / ایل جی

اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنہیں قرضے کی سہولت میسر ہے)

VIII بینفشری / اساتنی کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض بینڈ لنگ کلیمز کیلئے سروس 3000 روپے فلیٹ

چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں

صارف سے چارجز کی وصولی)

IX. گارنٹی لیٹر کی تینخ 750 روپے

X. الیکٹرک بینک گارنٹی کے اجراء کے لئے سوئفٹ چارجز 300 روپے

نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔

گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے

گا۔

F۔ انویسٹمنٹ پورٹفولیو سیکیورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹمنٹ پورٹفولیو سیکیورٹیز 1000 روپے فی ٹرانزیکشن

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز 1000 روپے فی ماہ

G۔ متفرق چارجز:

1۔ چیکس کی ادائیگی روکنا

2۔ بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس ہونے پر 700 روپے فی انسٹرکشن

3۔ اسٹیٹنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں) 750 روپے یا اکاؤنٹ میں 750 روپے سے کم جتنی بھی رقم ہو

4۔ صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کے اجراء 300 روپے فی انسٹرکشن بمعہ ترسیلات زر چارجز

400 روپے فی سرٹیفکیٹ

پُر

5۔ صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء پر

(اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت

میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)

(i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ 35 روپے

(ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اضافی 35 روپے ہر 6 ماہ پر

- 6۔ اُسی دن، چیکس کلیر ہونے کے چارجز
- 7۔ اُسی دن کا کلیرنگ چیک جو ہم پر ڈرا ہوا روٹا کافی فنڈ کی صورت میں بغیر ادائیگی واپس ہو جائے
- 8۔ آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز
- 9۔ دیگر بینکوں/بچت مرکز سے کوپنز پر منافع وصول کرنے کے کلیکشن چارجز
- 10۔ ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں
- 11۔ ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء
- 12۔ چیک بک کے چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک)
- 13۔ اسپیشلائزڈ/اتھارائزڈ چیک بک
- 14۔ کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کے چارجز
- 15۔ کال ڈپازٹ رسید کی ڈپلیکیٹ کے چارجز
- 16۔ کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی کے چارجز
- 17۔ اکاؤنٹ میینٹیننس سرٹیفکیٹ
- 18۔ انٹرسٹی چیکس کی وصولی بذریعہ نفٹ
- 19۔ انٹرسٹی (آؤٹ ورڈ)، چیک کی واپسی کے چارجز
- 20۔ بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سیٹلمنٹ
- کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک
- دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک
- دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک
- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک
- نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS چارجز ختم کر دیئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2 بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہونگے۔
- 21۔ بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ
- 22۔ یکسپریس چیک بک (10 لیوز)
- 23۔ بیلنس کا سرٹیفکیٹ
- 24۔ آڈیٹز کیلئے سرٹیفکیٹ برائے بیلنس
- 25۔ پرانے ریکارڈز کے حصول کیلئے
- 1 سال تک
- 2 سال تک
- 3 سال تک
- 3 سال سے زائد
- 26۔ قومی پرائز بونڈ پر بینک چارجز۔ جیتی گئی رقم کے کلیم پر
- 27۔ CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چارجز قومی پرائز بونڈ پر۔ جیتی گئی رقم کے دعوے پر اصل (اگر جیتی گئی رقم -/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو)
- 28۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان کے چیکس کے اجراء پر/
- 29۔ SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز
- 30۔ پروسیدرینٹلائزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر۔ ایک سال کے بعد
- 31۔ ڈوپلیکیٹ پروسیدرینٹلائزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر
- 32۔ اکاؤنٹ میینٹیننس چارجز (سلیپر اکاؤنٹ)
- اگر 3,000,000 کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار نہ رکھا جاسکے
- 550 روپے فلیٹ
- 750 روپے یا کوئی بھی رقم جو اکاؤنٹ میں 750 روپے سے کم ہو
- کوئی چارجز نہیں
- 150 روپے
- 150 روپے فی چیک
- 100 روپے
- 25 روپے فی لیف
- اصل
- کوئی چارجز نہیں
- 300 روپے
- کوئی چارجز نہیں
- 375 روپے فی سرٹیفکیٹ (کوئی چارجز نہیں اگر بینک الحبیب سے لون کیلئے درکار ہو)
- 350 روپے فی انسٹرومنٹ
- 750 روپے فلیٹ
- 220 روپے
- 330 روپے
- 550 روپے
- 50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 ہیمینٹ انسٹرکشنز بھیجی جاتی ہیں بذریعہ ایک ایم بی 102 میسج)
- 300 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 300 روپے
- 450 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 400 روپے
- 500 روپے
- 600 روپے
- 900 روپے
- 350 روپے فی دعویٰ
- اصل (اگر جیتی گئی رقم -/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو)
- 500 روپے
- پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے
- 500 روپے
- 700 روپے
- 1500 روپے فی ماہ

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I۔ ذاتی قرضے کی سہولت

- a۔ پروسیڈنگ فیس 3,000 روپے
b۔ پیشگی ادائیگی کوئی نہیں
c۔ تاخیر سے ادائیگی پر چارجز 1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی کی قسط پر
d۔ جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز کوئی نہیں
e۔ مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل
f۔ قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل

II۔ کیش فنانس کی سہولت

- a۔ قانونی دستاویزات کی سہولت / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل
b۔ پروسیڈنگ فیس 2500 روپے
c۔ لی این مارکنگ کے چارجز (بینک الحیب کے علاوہ) 500 روپے
d۔ تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی پر

III۔ آٹو کے قرضہ جات

- a۔ پروسیڈنگ فیس نئی گاڑیوں مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیوں کی 11,000 روپے فلیٹ
b۔ جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی) کوئی نہیں
c۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز 1200 روپے فی قسط تاخیر ادائیگی
d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی / واپس ہونے پر چارجز 750 روپے فی کیس
e۔ دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو
f۔ گاڑی کے معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
g۔ گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
h۔ مقدمہ سازی / قانونی چارجز کوئی نہیں
i۔ جزوی پری پیمنٹ فیس / چارجز کوئی نہیں
j۔ ذاتی، حادثاتی بیمہ اصل
k۔ گاڑی کی رجسٹریشن / انٹرنسفر چارجز / سیکورڈڈ ٹرانزیکشن رجسٹری اصل
l۔ ویز ہاؤس چارجز اصل جہاں لاگو ہو

IV۔ آٹو لیزنگ (بذریعہ کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- a۔ پروسیڈنگ فیس فی ٹریڈنگ 0.1 فیصد لیز کی رقم کا یا 10,000 روپے۔ جو بھی زیادہ ہو
b۔ قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل
c۔ جلد ادائیگی کی فیس / چارجز کوئی نہیں
d۔ تاخیر سے کی گئی ادائیگی کے چارجز 18 فیصد
e۔ چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 750 روپے فی کیس
f۔ دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر پرنی گاڑی چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 100,000 روپے یا اصل پر۔ جو بھی کم ہو
g۔ گاڑی کے معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
h۔ مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل

V۔ ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیلگری II کے تحت رینو ایبل انرجی سولوشنز کیلئے قرضہ انفرادی افراد کیلئے)

- a۔ پروسیڈنگ فیس 10,000 روپے
b۔ جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی) کوئی نہیں
c۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی قسط تاخیر سے ادائیگی پر
d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 750 روپے فی کیس
e۔ جائیداد کے معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
f۔ وکیل کی فیس اصل
g۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس اصل
h۔ دستاویزات / اسٹیمپنگ چارجز اصل
i۔ کوریئر چارجز (فارن) اصل

VI۔ ہاؤسنگ فنانس کیلئے گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم (میرا پاکستان میرا گھر)

- پروسیسنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس/ چارجز (پوری/ جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- عائدہ کے معائنے/ تفتیش چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز/ فیس
- دستاویزات/ اسٹیٹمنٹ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

5000 روپے
کوئی نہیں
1000 روپے
750 روپے فی کیس
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

VII۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز)

- قانونی دستاویزات/ معاہدے کے اسٹیٹمنٹ چارجز
- پروسیسنگ فیس
- معائنے/ تفتیش کے چارجز
- وکیل کی تفتیش فیس
- آمدنی کا تخمینہ

اصل
100 روپے
اصل
اصل
اصل

VIII۔ موٹر سائیکل کی فنانسنگ کی سہولت

- پراسیسنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس/ چارجز
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لیے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- دوبارہ قبضہ کی گئی گاڑیوں کی تفتیش/ معائنے کے چارجز
- مقدمہ بازی/ قانونی چارجز
- جزوی پری پیمنٹ فیس/ چارجز
- گاڑی کی رجسٹریشن/ ٹرانسفر چارجز/ سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)
- وئیر ہاؤس چارجز
- دستاویزی چارجز

کوئی نہیں
کوئی نہیں
تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 400 روپے
750 روپے فی کیس
اصل
اصل
اصل
کوئی نہیں
اصل
اصل جہاں اطلاق ہو
اصل

آلٹرنیٹ ڈیوری (اے ڈی سی) چینلز

- فئڈرٹرانسفر کی سہولت
انٹرنیٹ فئڈرٹرانسفر بذریعہ اے ٹی ایم/ انٹرنیٹ بینکنگ/ موبائل بینکنگ

25,000 روپے فی مہینہ/ فی اکاؤنٹ تک مفت آئی بی ایف ٹی۔
25,000 روپے فی مہینہ/ فی اکاؤنٹ سے زائد اضافی رقم کیلئے، ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1 فیصد
یا 200 روپے، جو بھی کم ہو، چارج کیا جائے گا۔

II۔ اے ٹی ایم

- اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
- لوکل بیلنس معلوم کرنے کے چارجز
- اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس (آف نیٹ)
- اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس (آن نیٹ)

فری
23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
4 روپے فی ٹرانزیکشن

III۔ ویزا ڈیبٹ کارڈ

- سالانہ/ متبادل۔ پرائمری

سکینچ کارڈ کیلئے 20,000 روپے، پلائنیم کارڈ کیلئے 8000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 4250 روپے سلور کارڈ کیلئے 3500 روپے
سکینچ کارڈ کیلئے 20,000 روپے، پلائنیم کارڈ کیلئے 5500 روپے گولڈ کارڈ کیلئے 3000 روپے سلور کارڈ کیلئے 2500 روپے
4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم یا 300 روپے جو زائد ہو

- سالانہ/ متبادل۔ سپلیمنٹری

- بین الاقوامی سطح پر اے ٹی ایم کیش وڈرال
- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

- h- بین الاقوامی سطح پر بیلنس انکوائری چارجز
i- ویزا آر بیٹریشن چارجز
j- بین الاقوامی رینیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
- 300 روپے
اصل
4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر

VI- موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کے دوبارہ اجراء پر مفت

V- چائنا یونین پے

- a- سالانہ/متبادل - پرائمری
b- سالانہ/متبادل - سپریمنٹری
c- بین الاقوامی سطح پر ای ایم کیش وڈرال
d- بین الاقوامی سطح پر بیلنس انکوائری
e- بین الاقوامی رینیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
f- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
g- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
h- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
i- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- 3000 روپے
2000 روپے
4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم یا 300 روپے جو زائد ہو
300 روپے
4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
اصل
اصل
اصل
اصل

VI. یونین بلیز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

- a- ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر 25 روپے

VII پے پاک

- a سالانہ/متبادل
b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز +
c. لوکل ریٹریول کی درخواست کے چارجز
- 2500 روپے
اصل
اصل

نوٹ- تمام کرنٹ اکاؤنٹس پر پے پاک ڈیبٹ کارڈ پر جاری کرنے/سالانہ/تجدید کی فیس معاف کرنے کے لیے، صارفین کو پچھلے/اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

(i) نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جب CPU کی جانب سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست دی جائے گی)۔

(ii) موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے کی مدت (یعنی 30 دن) مکمل نہیں ہوتی ہے تو اگلے مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھا جانا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم/کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دی جائے گی)۔

(iii) پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہے۔

VIII۔ کریڈٹ کارڈ

- a۔ سالانہ۔ پرائمری
- b۔ سالانہ۔ سلیمنٹری
- c۔ کریڈٹ کارڈ اے پی آر
- d۔ تاخیر سے ادائیگی کی فیس
- e۔ کیش ایڈوانس فیس
- f۔ چیک کے واپس ہونے پر فیس
- g۔ فروخت کی رسید کی حصولی کے چارجز (مقامی)
- h۔ فروخت کی رسید کی حصولی کے چارجز (بین الاقوامی)
- i۔ غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز
- j۔ کریڈٹ کارڈ کے متبادل کی فیس
- IX۔ ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- گرین کارڈ کیلئے 4500 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 6500 روپے
- گرین کارڈ کیلئے 2000 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 3000 روپے
- 25 فیصد سالانہ
- 2200 روپے یا کم از کم واجب الادا ادائیگی کا 10 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 1000 روپے یا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 900 روپے
- اصل
- اصل
- 4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
- 1,600 روپے
- انفرادی اور سول پروپرائٹرشپ اکاؤنٹس کیلئے فی ماہ فی اکاؤنٹ 225 روپے
- انشائی اکاؤنٹ کیلئے فی ماہ فی اکاؤنٹ 400 روپے

کیش منیجمنٹ سروسز

- a۔ ملک بھر میں کلیمیشن سولیشنز (کارپوریٹس/ایس ایم ایز/ایف آیز کے لیے) معاہدے کے مطابق
- b۔ بلک سیلیریز/ادائیگیاں معاہدے کے مطابق
- c۔ ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام معاہدے کے مطابق
- d۔ کسٹمائزڈ ایم آئی ایس /ارپورٹنگ معاہدے کے مطابق
- e۔ بینکرز ٹوڈی ایشو/فلوٹیشنز (آئی پی او/ٹی ایف سیز/رائٹ شیئرز وغیرہ) معاہدے کے مطابق
- f۔ دیگر کوئی سروس معاہدے کے مطابق
- g۔ الجیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس) معاہدے کے مطابق

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز/حکومتی ڈیوٹیاں ریگیولر چارجز کے علاوہ صارف سے چارجز وصول کئے جائیں گے، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین پر اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق چارجز لگائیں گے۔
- پروسیسنگ کی غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے

UNSC ریزولوشن کے تحت بلاکڈ /منجدا اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان/قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر او کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 1400 روپے کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے 3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو (ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو) سیکیورٹی ریٹ کمیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ	انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 1400 روپے کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے 3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو (ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو) سیکیورٹی ریٹ کمیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ	GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی) GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ) (c) بروکر چارجز	GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز
(روپے میں) (روپے میں) 0.15 0.01 0.10 فیصد 199.99 تک 0.30 0.15 0.075 فیصد 200 سے 399.99 0.50 0.30 0.05 فیصد 400 سے زیادہ	(روپے میں) (روپے میں) 0.15 0.01 0.10 فیصد 199.99 تک 0.30 0.15 0.075 فیصد 200 سے 399.99 0.50 0.30 0.05 فیصد 400 سے زیادہ	(e) کسٹومائزڈ چارجز شیرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ	(f) نکلوانے کے چارجز نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز) شیرز کے لئے 0.10 روپے فی شیر ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ رائٹس انٹیکلمنٹ ڈپازٹ شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ
شیرز کے لئے 0.01 روپے فی شیر ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ شیرز کے لئے 0.010 فیصد فی شیر (کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی) شیرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیر	شیرز کے لئے 0.01 روپے فی شیر ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ شیرز کے لئے 0.010 فیصد فی شیر (کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی) شیرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیر	(g) جمع کروانے کے چارجز ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز) ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز) (h) شیرز کی منتقلی کے چارجز ان/آؤٹ	(i) شیرز پلچ فیس

(k) گورنمنٹ ڈیبٹ سکیورٹیز (جی ڈی ایس) (پرائمری مارکیٹ نیلامی کے چارجز) نیلامی کی رقم کا 0.1 فیصد

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔

تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔

* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اوپر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

الحبيب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

A. متفرق چارجز

i. مینٹننس چیک کا اجراء

ii. چیک بک چارجز

iii. اسپیشلائزڈ/کسٹمائزڈ چیک بک

iv. چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

v. ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

vi. کم از کم بیلنس کے چارجز

vii. ٹیلیفون بل/موبائل بل کی ادائیگی

viii. بینک الحبيب کی کسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

ix. ایس ایم ایس/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ

500 پاکستانی روپے

25 روپے فی لیف

اصل

700 پاکستانی روپے

225 روپے فی ماہ فی اکاؤنٹ (مقامی)

مفت

مفت

مفت

مفت 25,000 IBFT روپے تک فی مہینہ/فی اکاؤنٹ کے ذریعے انٹرنیٹ بینک فنڈز کی

منتقلی 25,000 روپے سے زیادہ کی اضافی رقم کی ٹرانزیکشن کے لیے فی مہینہ مہینہ

(صرف PKR اکاؤنٹس کے لیے) فی اکاؤنٹ، 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی

کم ہو وصول کیا جائے گا۔

550 پاکستانی روپے فلیٹ

375 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

350 پاکستانی روپے فی انسٹرومنٹ

750 پاکستانی روپے فلیٹ

300 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

35 پاکستانی روپے

اضافی 35 پاکستانی روپے فی 6 ماہ

200 پاکستانی روپے

(i) اصل

(ii) اس میں کوریئر کمپنی کے سروس چارجز سمیت کوریئر چارجز کی کٹوتی صارفین کے

اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔ 150 پاکستانی روپے

1000 پاکستانی روپے فی پیغام

مفت - تمام بین الاقوامی عہدوں کیلئے

اصل

سوفٹ

xvii. ویلکم بیک ڈیوری

xvii. اگر آرڈر اے کنسائنمنٹ ڈیورنہ ہو سکا اس کے چارجز اور نامکمل پتے پر کوریئر

ہونے/صارف کی عدم دستیابی کی صورت میں چارجز

B. ترسیلات زر - غیر ملکی

ایرونی

(a) - ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) - ایف ٹی ٹی

(c) - ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) - ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

(a) مفت بینک چارجز لاگو ہوں گے

(b) مفت بینک چارجز لاگو ہوں گے

(c) - 10 امریکی ڈالر

(d) - امریکی ڈالر 6 پلس ڈرای بینک چارجز - اصل

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس/کوریئر/ڈاک/فیکس/سوفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II اندرونی

(a) DD/TT/MT

کوئی نہیں۔

روایتی بینکنگ اکاؤنٹس پر 1 فیصد کمیشن

1000 روپے فی ٹرانزیکشن

1000 روپے فی ماہ

فری

(b) - فارن ٹریولرز چیک کا اجراء

C - انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹر کارپورٹ فولیو سیکورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

D - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

- (b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز
(i) دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکالوانے پر
(ii) لوکل بینکس معلوم کرنے کے چارجز
(iii) اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس (آف نیٹ)
(iv) اے ٹی ایم رسید کی پرنٹنگ کی صورت میں فیس (آن نیٹ)
E. ویزہ ڈیوٹی کارڈ

a۔ سالانہ/متبادل/پرائمری

b۔ سالانہ/متبادل/سپلینٹری

- (c) بین الاقوامی اے ٹی ایم اسے رقم نکالوانے پر
(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(h) انٹرنیشنل بینکس انکوائری چارجز
(i) ویزہ ثالثی چارجز
(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن

(F) الحیب روشن اپنا گھر

- (a)۔ پروسیجر فیس
(b)۔ ابتدائی تصفیہ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)
(c)۔ دیر سے ادائیگی کے چارجز
(d)۔ ناکارہ/واپس کیے گئے چیکس پر چارجز
(e)۔ جائیداد کی تشخیص/تخصیص چارجز
(f)۔ وکیل کی تشخیص کی فیس
(g)۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس
(h)۔ دستاویزات اور اسٹیٹ ڈیوٹی چارجز
(i)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

G۔ الحیب روشن اپنی کار

- (a)۔ پروسیجر فیس
(b)۔ ابتدائی سیٹلمنٹ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)
(c)۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
(d)۔ ناکارہ/واپس شدہ چیکس پر چارجز
(e)۔ دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)
(f)۔ گاڑی کی تشخیص/تخصیص چارجز
(g)۔ دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تخصیص چارجز
(h)۔ قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز
(i)۔ جزوی ادائیگی فیس/چارجز
(j)۔ ذاتی حادثاتی بیمہ

(k)۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)

(l)۔ گودام کے چارجز

(m)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

(n)۔ تصدیقی چارجز

23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
4 روپے فی ٹرانزیکشن

پلاٹینیم کارڈ کیلئے 8000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 4250 روپے، سلور کارڈ کیلئے 3500 روپے
پلاٹینیم کارڈ کیلئے 5500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 3000 روپے، سلور کارڈ کیلئے 2500 روپے

4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم یا 300 روپے جو زائد ہو

اصل

اصل

اصل

اصل

300 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد

4,000 روپے

ایک سال کے اندر 1 فیصد، اسکے بعد کوئی چارجز نہیں
تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 1000 روپے

750 روپے فی کیس

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

8,750 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 1000 روپے

750 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔

اصل

اصل

اصل

کوئی نہیں

کوئی نہیں

اصل

اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔

اصل

اصل

H گیٹ وے ٹوا کیوٹی مارکیٹ (GEM)

(a) GEM اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

(c) GEM فیسیلیٹیشن چارجز

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز
پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

واپسی کی پروسیڈنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز
ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)

ڈپازٹ پروسیڈنگ فیس
(g) شیئر ٹرانسفر چارجز جمع کرنے یا نکلوانے پر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) گورنمنٹ ڈیبٹ سکیورٹیز (جی ڈی ایس) (پرائمری مارکیٹ نیلامی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے بینک کا شیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

انفرادی (انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 1400 روپے)
کم از کم شرح 3 پیسے یا 0.15 فیصد، جو بھی زیادہ ہو (ہر ایسی خرید و فروخت پر جو اسی دن کے دوران نہیں کی گئی ہو)

زیادہ سے زیادہ	کم از کم	کمیشن	سیکیورٹی ریٹ
(روپے میں)	(روپے میں)	(فیصد میں)	
0.15	0.01	0.10- فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200-399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ

شیئرز کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

TFCs کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

شیئرز کیلئے - 0.10 روپے فی شیئر .
TFC کیلئے - روپے فی یونٹ 50 روپے
رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10 روپے
شیئرز / یونٹس / رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر / یونٹ / رائٹ

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر

TFCs کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ

شیئرز / یونٹس / رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر / یونٹ / رائٹ

شیئرز کے لیے - 0.010 فیصد فی شیئر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)

شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر

0.0025 فیصد فی شیئر

نیلامی کی رقم کا 0.1 فیصد